

Jubilee
LIFE INSURANCE



HBL

امان
ریٹائرمنٹ کے بعد
پُر سکون زندگی

ریٹائرمنٹ کے وقت سکون سے زندگی گزارنے کے لئے آپ پوری زندگی محنت کرتے آئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ پر مستقل آمدنی بند ہونے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مناسب فنڈز ہوں۔

جوہلی لائف پیش کرتا ہے امان پلان، ایک ایسا انشورنس پلان جسے خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے خوابوں کو تعبیر دے سکیں۔ تو آج ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے لئے پلاننگ شروع کریں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔

برائے مہربانی ایچ بی ایل کی نامزد کردہ برانچوں پر موجود جوہلی لائف کے نمائندوں سے رابطہ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق مناسب پلان حاصل کریں۔ برانچوں کی تفصیلات www.hbl.com پر دستیاب ہیں۔

خصوصیات:

عمر	کم از کم 18 سال، زیادہ سے زیادہ 65 سال
مچھوڑی کے وقت عمر	75 سال، سالگرہ سے قریب ترین عمر
پالیسی کی مدت	10 سے 57 سال پالیسی 10 سے 57 سال کی مدت تک کبھی بھی جاری رکھی جاسکتی ہے۔ مدت کا انحصار پالیسی ہولڈر کی ضروریات اور پالیسی خریدتے وقت کی عمر پر ہے۔
کم از کم پرییمیم	سالانہ 18,000 روپے ششماہی 9,000 روپے سہ ماہی 4,500 روپے ماہانہ 1,500 روپے
کور ملٹپل*	5 تا 254
سم اشورڈ	ریگولر سالانہ بنیادی پرییمیم x کور ملٹپل

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

تحفظ

نامزد وراثت کو انتہائی قابل قدر تحفظ پیش کیا جاتا ہے جو پالیسی ہولڈر کی ناگہانی موت کی صورت میں فوائد حاصل کرتا ہے۔ ان فوائد میں سم ایشرڈ کے ساتھ ساتھ فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو یا ادائیگی پرییمیم میں سے جو بھی زیادہ ہوشاں ہوتے ہیں۔

پلان کی تکمیل:

منتخب کردہ میعاد کی کامیاب تکمیل پر پالیسی ہولڈر کو فنڈز کی مجموعی کیش ویلیو ادا کی جائے گی۔

میچورٹی پر اگر آپ کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو سے اپنی زندگی بھر کے لئے ایک ماہانہ پینشن کا انتظام کر لیں۔ (جس کا تخمینہ پلان کی میچورٹی پر لگایا جائے گا)۔

فوائد:

مندرجہ ذیل تحفظ اور سرمایہ کاری جیسے عمومی لاگو فوائد کے علاوہ، امان پلان آپ کو اضافی فوائد فراہم کرتا ہے اور اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد اور مالی استطاعت کے مطابق مختلف بیمہ فوائد میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔

سم اشورڈ اور فوائد کے حصول کے لئے آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنے وارث کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔

اضافی فوائد:

1- آٹومیٹک کوری میٹیننس:

دو سال تک پریمیئم کی ادائیگی کے بعد اگر آپ پریمیئم ادا نہ کر پائیں تو بھی آپ لائف انشورنس تحفظ کے اہل ہوں گے، جب تک آپ کے پلان کی کیش ویلیو پالیسی چارجز کی ادائیگی کے لئے کافی ہو۔

2- ایڈہاک پریمیئم:

اگر آپ کے پاس کسی بھی مرحلے پر اضافی فنڈز دستیاب ہوتے ہیں تو آپ امان پلان کے تحت کسی بھی وقت اپنی مرضی کے کسی فنڈ میں سرمایہ کاری کے لئے مختص کر سکتے ہیں۔ ایڈہاک میں سرمایہ کاری سے آپ کی کیش ویلیو میں اضافہ ہوگا۔

اختیاری فوائد:

1- حادثاتی موت:

پالیسی ہولڈر کی حادثاتی موت کی صورت میں نامزد کردہ ورثاء کو ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

2- پریمیئم کی چھوٹ:

کسی بیماری یا معذوری کی صورت میں اگر آپ اپنا موجودہ پیشہ یا کوئی اور پیشہ (جو کہ آپ کی ذہانت، تربیت یا تعلیم کے مطابق ہو) 6 ماہ یا زائد جاری نہ رکھ سکیں تو پریمیئم کی اگلی واجب الادا تاریخ سے آپ کا پریمیئم جو بلی لائف خود ادا کرے گی۔

سرمایہ کاری کے مواقع:

1۔ پرمیئم ایلو کیشن:

آپ کی سرمایہ کاری کیلئے مختص پرمیئم کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا سال	دوسرا سال	تیسرا سال	چوتھا سال اور آگے	ایڈ ہاک
40%	80%	90%	100%	100%

2۔ سرمایہ کاری کے لئے فنڈز کا انتخاب:

درج بالا ٹیبل کے مطابق آپ کی ادائیگیوں کو آپ کی مرضی کے فنڈز میں مختص کیا جائے گا۔

فنڈز

مینجڈ فنڈ:

مینجڈ فنڈ کا مقصد متوازن سطح کے وسیع ریٹنگ والے شیئرز، حکومتی اور فکسڈ انکم سیکورٹیز اور دیگر کیش ڈپازٹس میں ایسی سرمایہ کاری ہے جس سے سرمائے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ممکن ہو سکے۔

کیپٹل گروتھ فنڈ:

کیپٹل گروتھ فنڈ کا مقصد پالیسی ہولڈرز کے لئے اسٹاک کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہے جس کے لئے مختلف اقسام کے اثاثہ جات پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس میں گورنمنٹ سیکورٹیز، ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ اور بینک ڈپازٹس شامل ہیں۔

بیٹا فنڈ:

بیٹا فنڈ کا مقصد ایسے سرمایہ کاروں کو مواقع فراہم کرنا ہے جو سود سے پاک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا فنڈ کے ذریعے منتخب کردہ اسٹاکس، سوک بانڈز، اسلامی بینکوں کے شارٹ ٹرم ڈپازٹس، اسلامی میوچل فنڈز، اسلامی بینکوں کے فکسڈ انکم فنڈز اور دیگر سود سے پاک سرمایہ کاری کے ذرائع میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔

یقین گروتھ فنڈ:

یقین گروتھ فنڈ کا مقصد جوہلی لائف کے پالیسی ہولڈرز کو ایکویٹی سے کم سے کم متاثر ہونے والے فکسڈ انکم سیکورٹیز کے وسیع پورٹ فولیو میں شرکت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یقین گروتھ فنڈ ایسے افراد کے لئے مناسب ہے جو ڈیٹ سیکورٹیز کے زیر اثر سرمایہ کاری سے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

نوٹ: جوہلی لائف انشورنس کے فنڈز کے یونٹ نرخ صف اول کے روزناموں میں اور جوہلی لائف انشورنس کی ویب سائٹ www.jubileelife.com پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

اضافی معلومات:

جزوی دستبرداری:

کسی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر کوئی بھی رقم نکلا سکتے ہیں جب تک پالیسی کی باقی ماندہ کیش ویلیو * 18,000 روپے یا اس سے زیادہ رہے۔ آپ کو لائف انشورنس کور حاصل رہے گا بہر حال آپ کے سم اشورڈ سے جزوی طور پر نکالی گئی رقم جتنی کٹوتی کی جائے گی۔ جزوی دستبرداری کا اختیار پالیسی کے دو سال مکمل ہونے اور دو سالانہ پرمیئم کی ادائیگی کے بعد دستیاب ہوتا ہے۔

* باقی ماندہ کیش ویلیو کی حد پر جو بلی لائف نظر ثانی کر سکتی ہے۔

مکمل دستبرداری:

آپ کو پالیسی کے دو سال مکمل ہونے اور دو سالانہ پریئم کی ادائیگی کے بعد کسی بھی وقت پالیسی سے دستبرداری کا اختیار حاصل ہے۔ دستبرداری پر آپ کو آپ کے فنڈز کی کیش ویلیو کی مکمل ادائیگی کر دی جائیگی۔ بہر حال پالیسی کے ابتدائی سالوں میں دستبرداری کی صورت میں کیش ویلیو میں کمی واقع ہوگی۔

فری لک عرصہ:

آپ کو 14 دن کا فری لک عرصہ دیا جائے گا جس کے دوران آپ پالیسی کی شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پالیسی منسوخ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پریئم، پالیسی کے اجراء کی تاریخ کے 14 دن کے اندر آپ کی تحریری درخواست پر آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو بلی لائف طبی معائنے پر ہونے والے اخراجات (اگر کوئی ہوئی تو) کی کٹوتی کی مجاز ہے۔

افراط زر سے مقابلہ:

افراط زر سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ پالیسی میں انڈیکسیشن کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔ اس آپشن کے تحت، جو بلی لائف انشورنس کی طے کردہ حد کے مطابق پریئم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ انڈیکسیشن کا آپشن مسترد کر دیں۔

پلان کے حصول کا طریقہ:

امان پلان حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایچ بی ایل کی برانچ میں موجود جو بلی لائف کے نمائندوں کو مندرجہ ذیل مکمل شدہ دستاویزات جمع کرانے ہوں گے:

- شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی
- مکمل پروپوزل فارم بمعہ دستخط
- دستخط شدہ ڈائریکٹ ڈیپٹ انسٹرکشنز
- دستخط شدہ بیسک فیکٹ شیٹ
- دستخط شدہ پراڈکٹ انٹروڈکشن ڈاکیومنٹ
- اسسمنٹ فارم
- دستخط شدہ السٹریشن

چارجز:

امان پلان پر مندرجہ ذیل چارجز* لاگو ہوں گے:

- فنڈز ویلیو کا 1.5% سالانہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج
- 110 روپے ماہانہ انتظامی فیس

- 5% بڈ آفرا سپریڈ
- مورٹٹی چارجز کا اطلاق
- رائیڈر منتخب کرنے کی صورت میں لاگورائیڈرز چارجز
- پالیسی فیس:
- سالانہ اور ماہانہ پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 0 روپے
- ششماہی پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 250 روپے
- سہ ماہی پریمنیم کی ادائیگی کی صورت میں 300 روپے
- سوئچنگ / ری ڈائریکشن، 500 روپے اگر فی سال چار سے زائد منتخب کیا گیا ہو
- * جو بلی لائف انشورنس تمام معاوضوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔

اعلانات:

- یہ پراڈکٹ جو بلی لائف کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایچ بی ایل پاکستان یا اس سے ملحقہ ادارہ اس سے متعلقہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پراڈکٹ ایچ بی ایل پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بیمہ شدہ کسٹمرز یا ورثاء کو کلیم کی ادائیگی کے لئے جو بلی لائف ذمہ دار ہے۔
- جو بلی لائف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی گئی پیش گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے۔ اس سلسلہ میں نہ تو جو بلی لائف اور نہ ہی ایچ بی ایل پاکستان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔
- ہمارا سیلز کا نمائندہ آپ کو ذاتی اسٹریٹجی فراہم کرے گا۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے اسٹریٹجی میں دیئے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔
- براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کے تفصیلی جائزے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔
- پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ دار کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اسکے قریب ہو تو ضمنی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔
- ایچ بی ایل پاکستان، جو بلی لائف کے لئے تقسیم کار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور کسی طور پر بھی کسی شخص، بیمہ شدہ فرد یا وارث کو جوابدہ نہیں ہے۔
- سرمایہ کاری میں نقصان خدشات پالیسی ہولڈر کی جانب سے برداشت کئے جائیں گے، پلان کی تکمیل کے وقت یا پالیسی ختم کرنے کے وقت اصل رقم بیان کردہ رقم کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔
- براہ کرم بنیادی فنڈ کے ٹارگٹ ایسٹیمس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے:

رابطہ کی تفصیلات:

شکایت اور مزید تفصیلات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A، لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی، 74000، پاکستان

ٹیلی فون: (021) 32120201, 35205094

فیکس: (021) 35610959

ای میل: info@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو اے این: (021) 111 111 554

ایس ایم ایس: "JUBILEELIFE" لکھ کر 8398 پر بھیجیں

حبیب بینک لمیٹڈ

یو اے این: 111-111-425

ویب سائٹ: www.hbl.com